



## **PRESS RELEASE**

For immediate release

April 21, 2020

### **In wake of Covid-19, SECP asks microfinance institutions to facilitate borrowers**

ISLAMABAD, April 21: To facilitate borrowers of non-bank lending companies (NBFCs), the SECP has allowed deferment of repayment of principal and rescheduling of loans, based on borrowers' requests.

To further facilitate small borrowers and microenterprise, the regulators has advised the non-bank microfinance companies (NBMFCs) to accept such requests made through SMS, emails and phone calls. The SECP has also asked Asset Management Companies (AMCs) to provide investors account statements and other information through SMS or email in lieu of sending hard material.

Additionally, to facilitate the asset management industry, SECP has increased the maximum period of borrowing by mutual funds for redemption purposes from 90 days to 365 days. The SECP has also advised the mutual funds to consider reduction in their management fee, sales load, online investment/redemption etc. Besides, the time to regularize regulatory exposure limit breaches due to redemption has been extended from four months to six months and time for announcement of daily Net Asset value (NAV) of collective investment schemes has been extended from 18:30pm to start of next working day. Deadline for submission of regulatory monthly returns for March 2020 has been extended up to April 30, 2020. Requirements of obtaining mandatory certification for mutual fund distributors has been relaxed and extended from six months to nine months. Deadline for making necessary changes in constitutive documents/forms regarding risk categorization of collective investment schemes has also been extended for sixty days. Furthermore, timeline for implementation of IFRS 9 for NBFCs has been extended by further one year

Also, the maximum limit for application of discretionary discount limit for AMCs for corporate debt securities has been enhanced to make adjustment in pricing for the purpose of NAV calculation. To align classification of non-performing assets across the financial industry, period for classification of debt security to non-performing category for mutual fund is extended from 15 days to 180 days and rescheduling of such facilities is allowed during extended period.

The SECP is closely monitoring impact of the Covid-19 pandemic on the non-banking finance sector especially in context of sufficiency of risk management framework, business continuity, encouraging work from home operations, ensuring investor protection/convenience and facilitating micro borrowers/micro enterprises.

ایس ای سی پی نے نان بینکنگ مائیکرو فنانس انسٹی ٹیوشنز کے صارفین کو قرض کی ادائیگی میں سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کردی

اسلام آباد (اپریل 21) سیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے پیدا ہونے والی صورتحال میں چھوٹے کاروبار اور عوام کے آسانی فراہم کرنے کے لیش نظر، نان بینک مائیکرو فنانس انسٹی ٹیوشنز کو ہدایت کی ہے کہ قرض حاصل کرنے والے صارفین کو قرض کی قسط کی موخر ادائیگیوں کی سہولت فراہم کریں۔

ایس ای سی پی نے نان بینکنگ مالیاتی اداروں سے کہا ہے کہ صارفین کی جانب سے قرض کی قسط کی ادائیگی کو موخر کرنے کی درخواست موصول ہونے پر صارفین کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں۔ اس سلسلے میں یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ صارفین کو یہ سہولت بھی دی جائے کہ وہ ای میل یا فون کال کے ذریعے قرض کی قسط کی ادائیگی کو موخر کرنے کی درخواستیں کر سکیں۔

اس کے علاوہ میوچل فنڈ انڈسٹری کو سپورٹ دینے کے لئے میوچل فنڈز کے لئے قرض کی مدت کو 90 دن سے بڑھا کے 360 دن کر دیا گیا ہے۔ کمیشن نے مارکیٹ کے ٹی آرای سی ہولڈروں کی کم از کم سرمائے کے عوض ڈیپازٹ کی شرائط کو بھی کم کر دیا ہے۔ ایس ای سی پی نے میوچل فنڈز کو تجویز کیا ہے کہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں فنڈز اپنی مینجمنٹ فیس، سیل لوڈ اور ان لائن انوسٹمنٹ کے چارجز میں کمی کرنے پر غور کریں۔ میوچل فنڈز کی آسانی کے لئے ایس ای سی پی نے کی انوسٹمنٹ اسکیم کی روزانہ نیٹ ایسٹ ویلیو کے اعلان کے لئے مقررہ وقت شام ساڑھے چھ بجے سے بڑھا کر اگلے روز صبح دفتر شروع ہونے تک بڑھا دیا ہے جبکہ مارچ کے لئے ریگولیٹر ریٹرن جمع کروانے کی مدت میں بھی اپریل کی 30 تاریخ تک توسیع کر دی گئی ہے۔ میوچل فنڈز انڈسٹری کے لئے لازمی سرٹیفیکیشن کے حصول کی مدت بھی چھ ماہ سے بڑھا کر نو ماہ کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ میوچل فنڈز کے لئے عالمی اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ IFRS-9 پر عمل درآمد کے لئے ایک سال کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جبکہ ایسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ صارفین کو ان کے اکاؤنٹ کی سٹیمٹ ای میل پر بھجوائیں۔